



رسول اللہ ﷺ منیٰ تشریف لائے پھر جمرہ عقبہ کے پاس آئے اور اسے کنکریاں ماریں پھر منیٰ میں اپنے پڑاؤ پر آئے اور قربانی کی، پھر بال مونڈنے والے سے فرمایا: پکڑو اور آپ نے اپنے (سر کی) دائیں طرف اشارہ کیا پھر بائیں طرف پھر آپ (اپنے موئے مبارک) لوگوں کو دینے لگے

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ منیٰ تشریف لائے پھر جمرہ عقبہ کے پاس آئے اور اسے کنکریاں ماریں پھر منیٰ میں اپنے پڑاؤ پر آئے اور قربانی کی، پھر بال مونڈنے والے سے فرمایا: پکڑو اور آپ نے اپنے (سر کی) دائیں طرف اشارہ کیا پھر بائیں طرف پھر آپ (اپنے موئے مبارک) لوگوں کو دینے لگے ایک دوسری روایت میں ہے کہ رمی جمرہ کے بعد آپ نے قربانی کی اور سر منڈایا؛ نائی کو سر کا دایاں حصہ (مونڈنے کے لیے) دیا اُس نے اسے مونڈ دیا، آپ نے ابوظلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو بلا کر وہ بال دے دیے، پھر نائی کو بائیں حصہ دیا اور اُس سے فرمایا مونڈ دو، اُس نے مونڈ دیا، آپ نے اُسے بھی ابوظلحہ کو دے دیا اور فرمایا ”اسے لوگوں کے مابین تقسیم کردو“

[صحیح] [اس حدیث کی دونوں روایتوں کو امام مسلم نے روایت کیا ہے]

رسول اللہ ﷺ حجۃ الوداع کے موقع پر جب عید کے دن منیٰ آئے تو جمرات کی رمی کی، پھر اپنے ٹھکانے کی طرف گئے اور اپنے قربانی کے جانور کی نحر کی، اس کے بعد نائی کو بلایا اس نے آپ کے سر کے بال مونڈنے رسول اللہ ﷺ نے اپنی دائیں جانب اشارہ کیا تو حلاق (نائی) نے دائیں جانب سے بال مونڈنا شروع کیا پھر آپ نے ابو طلحہ انصاری کو بلایا اور اپنی دائیں جانب کے کٹے ہوئے تمام بال ان کو دے دیے پھر باقی سر مونڈا گیا اور آپ نے ابو طلحہ کو بلایا اور وہ بھی ان کو دے دیے اور فرمایا کہ اس کو لوگوں میں تقسیم کر دو انہوں نے وہ بال لوگوں میں تقسیم کر دیے کسی کو ایک بال ملا، کسی کو دو اور کسی کو اس سے زیادہ جو میسر ہوا ملا اور یہ نبی ﷺ کے اس مبارک بال کے تبرک کی وجہ سے ہوا اور یہ صرف رسول اللہ ﷺ کے آثار کے ساتھ خاص اور جائز ہے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/3052>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

